

(v) Het up

(vii) It's about time

(iv) Tilt at windmills

(vi) The whole ball of wax

(viii) Punch-up

Q.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Lehore is not only the ^{centre} of politics, but also an ancient ^{centre} of culture. The Mughal Empire culture saw the ^{zenith} of its rise. It was also the ^{centre} of Sikh culture. The culture of literature also became a part of this city. It was also the ^{centre} of Sufism. The ^{most famous} ^{work of the} book of Sufism "Kafay-ul-Mehjoob", (Hazrat) Ali Hajveri - ^{commonly known as} ~~Mushkatas~~ Hazrat Dafa Ganj Belchs is also buried in this city. In the British rule, fashion of Lehore ^{was what?} was in ^{the} sub-continent. The importance of this city did not get down even after the inception of Pakistan.

Choice of words needs a little improvement. Grammar generally ok.